



سوال

(107) کیا آیت الکرسی قرآن کا چوتھا نئی ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جلال الدین السیوطی کی کتاب: "الاتقان فی علوم القرآن جلد دوم اردو ایڈیشن" شائع کردہ میر محمد کریم ص ۳۸۱ میں حدیث ہے کہ مسند احمد میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کا ایک چوتھا نئی ہے۔ (یعنی ثواب میں ربع قرآن کے برابر ہے)

آپ براہ کرم مسند احمد میں سیدنا انس کی روایات میں حدیث بالاتلاش کر کے حدیث کی اسنادی تحقیق منظر عام پر لا کر آگاہ فرمائیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیت الکرسی کی مندرجہ بالا فضیلت ثابت ہے یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

الاتقان للسیوطی، نسخہ عربیہ (ج ۲ ص ۱۹۵) کی محولہ بالا روایت مسند احمد (جو ص ۲۲۱) الثواب لابن الصبہانی (الجامع الصغیر للسیوطی حدیث ۲۱ کنز العمال حدیث ۲۵۳۶) اور الفردوس للذہبی (فیض القدر للمنزہ ج ۱ ص ۸۰، ۸۱) میں سلمہ بن وردان عن انس رضی اللہ عنہ کی سند کے ساتھ موجود ہے۔ یہی روایت سنن ترمذی، کتاب فضائل القرآن باب ماجاء فی اذانزلت حدیث: ۲۸۹۵ میں سلمہ بن وردان عن انس کی سند کے ساتھ مطولا موجود ہے لیکن اس میں آیت الکرسی کا ذکر سہوا یا روایتا حذف ہے۔ واللہ اعلم

اگرچہ امام ترمذی نے اس سند کو "حسن" قرار دیا ہے لیکن اصول حدیث کی رو سے یہ سند ضعیف ہے۔ سلمہ بن وردان کو جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے جیسا کہ رقم الحروف نے تقریب التہذیب کے حاشیہ پر ثابت کیا ہے۔ حافظ ذہبی نے اسے "لین الحدیث" (المعنی فی الضعفاء ج ۱ ص ۲۳۳) یعنی ضعیف اور حافظ ابن حجر نے "ضعیف" کہا ہے۔ (تقریب التہذیب مع تحقیق الاثر ص ۱۳۱)

حافظ نور الدین البیہقی یہ روایت نقل کر کے لکھتے ہیں: "رواہ احمد وسلمتہ ضعیف" اسے احمد نے روایت کیا ہے اور (اس کا راوی) سلمہ ضعیف ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۲۷)

سلمہ بن وردان کے بارے میں ابو حاتم رازی اور الحاکم النیسابوری نے یہ جرح مفسر کی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سلمہ مذکور کی عام روایتیں منکر ہیں۔ امام ابن عدی الکامل میں اور حافظ الذہبی میزان الاعتدال (ج ۲ ص ۱۹۳) میں سلمہ کی درج بالا روایت بطور منکر روایت لائے ہیں۔ علامہ سیوطی جیسے متساہل محدث نے بھی اس روایت کو "ضعیف" ہی قرار دیا ہے۔



هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاوى علمية (توضيح الاحكام)

ج 2 ص 283

محدث فتوى